

مریض اور نگران کے لیے تعلیم


# بیمار بچوں کے لیے سینٹرل وینس کیتھیٹر (CVC) سے متعلق

یہ معلومات CVC لگانے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہیں بشمول تیار کرنے کا طریقہ اور آپ کیا توقعات رکھ سکتے ہیں اس میں CVC کی دیکھ بھال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اس ریسورس میں، ”آپ“ اور ”آپ کا“ کی اصطلاحات آپ یا آپ کے بچے کے لیے ہیں۔

## CVC کے بارے میں

CVC ایک کیتھیٹر (لمبی، لچکدار ٹیوب) ہے جو آپ کے سینے کی نس میں ڈالی جاتی ہے CVC کی متعدد اقسام ہیں آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ کے لیے کون سی قسم بہترین ہے۔

سب CVC میں ایک مرکزی کیتھیٹر ہوتا ہے جو آپ کے دل کے قریب ایک بڑی نس میں ڈالا جاتا ہے جسم سے باہر مرکزی کیتھیٹر 1، 2 یا 3 چھوٹی ٹیوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جنہیں لومنز (lumens) کہتے ہیں۔ ہر لومن میں ایک کلیمپ، نیڈل لیس کنیکٹر (جسے کلیو بھی کہا جاتا ہے) اور سر پر ڈس انفیکشن کیپ ہوتی ہے (شکل 1 دیکھیں)۔



شکل 1 سینٹرل وینس کیتھیٹر (CVC)

CVC کا استعمال سے آپ انجکشن سے ہونے والے زخموں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کی کیئر ٹیم ان مقاصد کے لیے CVC استعمال کر سکتی ہے:

- آپ کے خون کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے
- آپ کو لیکویڈ کی فراہمی کے لیے
- آپ کو کیموتھراپی اور دیگر ادویات دینے کے لیے
- خون کی منتقلی کے لیے
- آپ کو انس (IV) کے ذریعے غذا دینے کے لیے

آپ کا CVC آپ کے جسم میں چند سالوں تک بھی رہ سکتا ہے۔ آپ کے پورے علاج کے دوران اپنی جگہ پر لگا رہنا جب اس کی مزید ضرورت نہیں رہے گی تو آپ کا ڈاکٹر CVC ہٹا دے گا۔

CVC کی موجودگی آپ کو اپنی معمول کی سرگرمیوں سے نہیں روکتی جیسے اسکول جانا، کام کرنا، نہانا اور ہلکی ورزش کرنا۔ مزید معلومات کے لیے "CVC کی دیکھ بھال" سیکشن پڑھیں۔

CVC لگوانے کے لیے ایک پروسیجر کروانا پڑتا ہے۔ آپ کی نرس بتائے گی کہ آپ نے پروسیجر کے لیے کیسے تیار ہونا ہے۔ پروسیجر کے بعد وہ آپ کو اپنے CVC کی دیکھ بھال کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ آپ یہ سب سیکھیں گے:

- اپنی ڈریسنگ (بینڈیج) تبدیل کرنا
- اپنا نیڈل لیس کنیکٹر تبدیل کرنا
- اپنی ڈس انفیکشن کیپس تبدیل کرنا (جیسے SwabCaps®)
- CVC کو فلش کرنا

آپ کے ساتھ آپ کا خیال رکھنے والا خاندان کا کوئی فرد یا دوست بھی یہ سب سیکھ سکتا ہے گھر جانے کے بعد اپنا CVC کی دیکھ بھال کے سٹیپس یاد رکھنے کے لیے اس ریسورس کا استعمال کریں

## آپ کے طبی عمل سے پرہیز

### اپنی دوائیوں کے بارے میں پوچھیں

پروسیجر سے پرہیز کچھ دوائیوں کا استعمال بند کرنا ضروری ہے اپنا ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کریں کہ کون سی دوائیوں کا استعمال بند کرنا آپ کے لیے محفوظ ہے ذیل میں کچھ عمومی مثالیں ہیں

### Anticoagulants (خون پتلا کرنے والی)

اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا (جو آپ کے خون کے جمنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے) لیتے ہیں تو اس ڈاکٹر سے جو آپ کا پروسیجر کر رہا ہے پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے

خون پتلا کرنے والی ادویات کی مثالیں		
اسپرین	ٹنزاپرین (Innohep®)	پراسگرل (Effient®)
وارفرین (Jantoven® or Coumadin®)	اینوکساپرین (Lovenox®)	ٹکلوئیڈین (Ticlid®)
ڈالٹپرین (Fragmin®)	کلوی ڈوگرل (Plavix®)	
پیرین	سلوسٹازول (Pletal®)	

### ذیابیطس کی ادویات

اگر آپ ذیابیطس کے لیے انسولین یا دیگر ادویات لیتے ہیں تو تجویز کرنے والے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ پروسیجر کی صبح آپ کو کیا کرنا چاہیے اور سکتا ہے کہ آپ کو پروسیجر سے پرہیز اپنی ادویات کی خوراک تبدیل کرنی پڑے

### اسپرین اور دیگر نان سٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس (NSAIDs)

اگر آپ اسپرین یعنی ایسی دوا جس میں اسپرین ہے یا NSAID جیسے Advil یا ibuprofen®

Motrin®) لیتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا آپ کو پروسیجر سے پہلے اس کا استعمال بند کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ یہ دوا کس وجہ سے لے رہے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)) پڑھیں۔

## وٹامن E اور دیگر غذائی سپلیمنٹس

اگر آپ وٹامن E لیتے ہیں تو پروسیجر سے 7 دن پہلے یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال بند کر دیں۔

اگر آپ ملٹی وٹامن، ریل ریمیڈیز یا کوئی اور غذائی سپلیمنٹ لیتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا آپ اس کا استعمال جاری رکھ سکتے ہیں۔

## اگر آپ بیمار ہیں تو ہمیں بتائیں

پروسیجر سے پہلے بیمار (جیسے بخار، نزلہ، گلہ کی سوزش یا فلو) ہونے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔

## پروسیجر سے ایک دن قبل

### پروسیجر کا وقت نوٹ کریں

عمل کا رکن آپ کے پروسیجر سے ایک دن پہلے آپ کو کال کرے گا اگر آپ کا پروسیجر پیر کو ہونا ہے تو وہ آپ کو جمعہ کو کال کریں گے اگر شام 4:00 بجے تک کوئی کال نہ آئے تو 212-639-5948 پر خود کال کریں۔

عمل کا رکن آپ کو بتائے گا کہ پروسیجر والے دن آپ کو کس وقت ہسپتال پہنچنا ہے اور آپ کو یاد دہانی بھی کروائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور درج ذیل میں سے کوئی جگہ ہوگی:

- پیڈیاٹرک ایمبولیٹری کیئر سینٹر (PACC)  
1275 یارک ایونیو (ایسٹ 67<sup>th</sup> اور ایسٹ 68<sup>th</sup> سٹریٹس کے درمیان)  
نیویارک، نیویارک 10065  
لفٹ B کے ذریعے 9 ویں منزل پر جائیں۔
- پریسرجیکل سینٹر (PSC) چھٹی منزل پر  
1275 یارک ایونیو (ایسٹ 67<sup>th</sup> اور ایسٹ 68<sup>th</sup> سٹریٹس کے درمیان)

MSK کی تمام لوکیشنز کی ہدایات اور پارکنگ کی معلومات کے لئے [www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) ملاحظہ کریں

## آپ کے طبی عمل سے قبل کھانے کی ہدایات



اپنے پروسیجر سے ایک رات پہلے آدھی رات کے بعد کوئی ٹھوس غذا نہ کھائیں اس میں سخت ٹافی اور گم شامل ہیں

## آپ کے پروسیجر کا دن

### آپ کے طبی عمل سے پہلے پانی پینے کی ہدایات

آپ آدھی رات کے بعد پینے کا فارمولا، ماں کا دودھ اور شفاف مشروبات رکھ سکتی ہیں درج ذیل جدول میں دی گئیں ہدایات پر عمل کریں اپنے دانتوں کو برش کرنا اور پانی کے چھوٹے سے گھونٹ کے ساتھ اپنی ادویہ لینا ٹھیک ہے

مشروب کی قسم	پینے کی مقدار	پینا کب روکنا ہوگا
فارمولا	کوئی بھی مقدار	آپ کی آمد کے طے شدہ وقت سے 6 گھنٹے پہلے فارمولا پینا روک دیں
ماں کا دودھ	کوئی بھی مقدار	آپ کی آمد کے طے شدہ وقت سے 4 گھنٹے پہلے ماں کا دودھ پینا روک دیں
شفاف مشروبات جیسے کہ پانی، گودے، کھیر پھل کا جوس، کاربونیٹڈ (فزی) مشروبات، دودھ کے بغیر چائے اور دودھ کے بغیر کافی	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 سے 3 سال کی عمر: 4 اونسز (120 ملی لیٹرز) تک</li> <li>4 سے 8 سال کی عمر: 6 اونسز (180 ملی لیٹرز) تک</li> <li>9 سے 13 سال کی عمر: 8 اونسز (240 ملی لیٹرز) تک</li> <li>13 سال اور اس سے زائد کی عمر: 12 اونسز (360 ملی لیٹرز) تک</li> </ul>	آپ کی آمد کے طے شدہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے شفاف مشروبات پینا روک دیں



آپ کی آمد کے طے شدہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے کچھ بھی نہ پیئیں اس میں فارمولا، ماں کا دودھ، پانی اور دیگر شفاف مشروبات شامل ہیں۔

## ہدایات کے مطابق اپنی دوائیاں لیں

اگر ڈاکٹر آپ کو پروسیجر کی صبح کچھ دوائیاں لینے کی اجازت دے تو صرف وہی دوائیاں پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ لیں۔ آپ جو دوائیاں لیتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ آپ کی صبح کی معمول کی دوائیوں میں سے کچھ یا ساری دوائیاں ہو سکتی ہیں۔

## نہانا

اپنے معمول کے صابن، شیمپو اور کنڈیشنر کے ساتھ نہائیں۔ نہانے کے بعد اپنا جسم صاف تولیے سے خشک کریں اور صاف کپڑے پہنیں۔ کوئی لوشن، کریم، ڈیوڈورنٹ، میک اپ، پاؤڈر، پرفیوم یا کولون نہ لگائیں۔

## اہم باتیں

- صاف اور آرام دہ لباس پہنیں۔
- اگر آپ کانٹیکٹ لینز استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے عینک استعمال کریں۔ پروسیجر کے دوران کانٹیکٹ لینز کا استعمال آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
- کوئی دھاتی چیز نہ پہنیں۔ تمام زیورات اتار دیں، بشمول ہاڈی پیئرسنگ۔ آپ کے پروسیجر کے دوران استعمال ہونے والے آلات دھات کو چھونے کی صورت میں جلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔
- قیمتی اشیاء گھر چھوڑ کر آئیں۔
- اگر آپ کو ماہواری دوری ہو تو سینٹری پیڈ استعمال کریں۔ ٹیمپون نہ لیں۔ اگر ضرورت ہو تو آپ کو ڈسپوز ایبل انڈرویئر کے ساتھ ساتھ ایک پیڈ بھی دیا جائے گا۔

## کیا کیا ساتھ لانا چاہیے

- ادویات جو آپ گھر پر لیتے ہیں، بشمول اوور دی کاؤنٹر اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات، پیچز اور کریمیں۔
- سانس کے مسائل کی ادویات (جیسے انہیلر)، اگر آپ لیتے ہیں تو۔

- سینہ کے درد کی ادویات، اگر آپ لیتے ہیں تو
- عینک یا کانٹیکٹ لینز کا کیس
- آپ کا پلٹھ، کیئر پراکسی فارم اور دیگر پیشگی دایات، اگر آپ نہ مکمل کر لیں تو
- نیند کی کمی کے لیے آپ کی سلپنگ ڈیوائس (جیسے CPAP یا BiPAP)، اگر آپ کے پاس ہے تو
- بے ریسورس آپ اسے پروسیجر کے بعد اپنے CVC کی دیکھ بھال کا طریقہ سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں

## ہسپتال پہنچنے کے بعد

ہسپتال پہنچنے کے بعد (اگر آپ PACC جا رہے ہیں تو) 9<sup>th</sup> فلور اور (اگر PSC جا رہے ہیں) تو 6<sup>th</sup> فلور پر جانے کے لئے B لفٹ لیں

عمل کے بہت سے ارکان آپ سے آپ کا نام، اس کے سپلنگ اور تاریخ پیدائش بتانے کے لیے کہیں گے۔ آپ کے تحفظ کے لیے سوچنا کہ ایک جیسے یا ملنے جلتے نام والے افراد ایک ہی دن پروسیجر کروا رہے ہوں

پروسیجر کے لیے لباس تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ہاسپٹل گاؤن، روب اور نان سکڈ موزے فراہم کیے جائیں گے

## نرس سے ملیں

پروسیجر سے پہلے آپ ایک نرس سے ملیں گے اسے آدھی رات کے بعد لی گئی کسی بھی دوائی (بشمول پیجز اور کریمیں) کی خوراک اور وقت بتائیں

آپ کی نرس آپ کی نس (IV) لائن لگاؤ گی IV لائن کے ذریعے آپ کو مائع، پروسیجر کے دوران سکون آور دوا یا دونوں دیئے جا سکتے ہیں

## اینسٹھیسیولوجسٹ سے ملیں

پروسیجر سے پہلے آپ ایک اینسٹھیسیولوجسٹ سے بھی ملیں گے وہ آپ کے ساتھ:

- آپ کی میڈیکل ہسٹری کا جائزہ لے گا
- آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کو ماضی میں اینسٹھیسیا سے کوئی مسئلہ ہوا ہے بشمول متلی (ایسا محسوس ہونا جیسے آپ قے کر دیں گے) یا درد
- سرجری کے دوران آپ کے آرام اور حفاظت کے بارے میں بات کرے گا
- آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس قسم کا اینسٹھیسیا دیا جائے گا

● اینستھیزیا سے متعلق آپ کے سوالات کے جواب دیے گا

## پروسیجر کے لیے تیار ہو جائیں

پروسیجر شروع ہونے سے قبل انتظار کے دوران ایک یا دو لوگ آپ کے پاس رہ سکتے ہیں۔ پروسیجر کا وقت ہونے پر عمل کے ایک رکن آپ کے مہمانوں کو ویٹنگ ایریا میں لے جائے گا

آپریٹنگ روم میں جانے سے پہلے آپ کے لیے آلہ سماعت، مصنوعی اعضا، وگ اور مذہبی اشیاء اتارنا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو

آپ چل کر آپریٹنگ روم میں جائیں گے یا عمل کے کوئی رکن آپ کو سٹریچر پر لے جائے گا۔ آپریٹنگ روم ٹیم کا ایک رکن آپریٹنگ بیڈ پر لیٹنے میں آپ کی مدد کرے گا جب آپ آرام سے لیٹ جائیں گے تو اینستھیزیبولوجسٹ آپ کو IV لائن کے ذریعے اینستھیزیا دیے گا اور آپ سو جائیں گے

## آپ کے طبی عمل کے دوران

سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کو کالر بون کے قریب لوکل اینستھیک کا انجکشن (شاٹ) دیے گا۔ لوکل اینستھیک ایک دوا ہے جو آپ کے جسم کے ایک حصے کو بے حس کر دیتی ہے اس سے پروسیجر کے بعد آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا

اس کے بعد ڈاکٹر 2 چھوٹے چیر (سرجیکل کٹس) لگائے گا جنہیں انسرسن سائٹ اور ایگزٹ سائٹ کے جاتا ہے

● **انسرسن سائٹ** وہ جگہ ہے جہاں سے CVC آپ کی رگ میں داخل ہوگا۔ یہ چیر آپ کی کالر بون کے بالکل نیچے ہوگا

● **ایگزٹ سائٹ** وہ جگہ ہے جہاں سے CVC آپ کے جسم سے باہر نکلا جائے گا۔ یہ چیر انسرسن سائٹ سے چند انچ نیچے ہوگا

اس کے بعد ڈاکٹر CVC کا ایک سرا انسرسن سائٹ کے ذریعے آپ کی نس میں ڈالے گا۔ اسے آپ کی جلد کے نیچے سے گزارنے کے لیے ایگزٹ سائٹ سے باہر نکال دے گا۔ CVC آپ کی جلد کے نیچے سے گزارنے کی وجہ سے حرکت نہیں کرے گا

CVC لگانے کے بعد ڈاکٹر Dermabond® (سرجیکل گلو) یا Steri-Strips™ (سرجیکل ٹیپ) سے انسرسن سائٹ کو بند کر دے گا اور ایگزٹ سائٹ کو سوچر (ٹانکے) سے بند کر دے گا۔ CVC کو بھی ایگزٹ سائٹ پر آپ کی جلد کے ساتھ سی دیے گا تاکہ آپ کی جلد کے نیچے سے سیٹ ہونے تک اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اس کے بعد 2 ڈریسنگز لگائے گا: 1 ڈریسنگ آپ کی انسرسن سائٹ پر اور دوسری ایگزٹ سائٹ اور CVC پر



# آپ کے طبی عمل کے بعد

جب آپ اپنے پروسیجر کے بعد بیدار ہوں گے تو پوسٹ اینسٹھیزیا کیئر یونٹ (PACU) میں ہوں گے جب آپ وہاں آرام دہ ہو جائیں گے تو ایک نرس آپ کے مہمانوں کو آپ کے پاس لے آئے گی۔

نرس آپ کے ٹمپریچر، نبض، بلڈ پریشر اور آکسیجن لیول پر نظر رکھے گی۔ مکمل طور پر بیدار ہونے کے بعد آپ کو مشروب اور ہلکا ناشتہ دیا جائے گا۔

ہسپتال سے ڈسچارج ہونے سے قبل نرس آپ کو اور آپ کی نگہداشت کرنے والے کو ڈریسنگ کی دیکھ بھال کا طریقہ سکھائے گی۔ آپ کو ایمرجنسی کٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ ایمرجنسی کٹ میں یہ اشیاء ہوں گی:

- 2 ٹوتھ لیس کلیمپ
- 1 ڈریسنگ چینج کٹ
- الکوحل پیڈ
- میڈیکل (پیپر) ٹیپ
- آپ کے ڈاکٹر کا آفس کا اور ایمرجنسی ٹیلی فون نمبر

**اپنی ایمرجنسی کٹ بروقت اپنے ساتھ رکھیں۔** اگر آپ کا کیتھیٹر لیک ہو رہا ہو، آپ کی ڈریسنگ گندی ہو جائے یا اتر جائے یا آپ کا نیڈل لیس کنیکٹر یا ڈس انفیکشن کیپ گر جائے تو آپ کو ایمرجنسی کٹ کی ضرورت پڑے گی۔

## اپنے کٹس کا خیال رکھنا

آپ کو کٹس کے ارد گرد تکلیف محسوس ہوگی۔ آپ کی کیئر ٹیم آپ کی ضروریات کی بنیاد پر درد کنٹرول کرنے کا پلان بنائے گی۔ اگر آپ کو درد میں افاقہ نہ ہو تو انہیں بتائیں۔

پروسیجر کے بعد پہلے 24 گھنٹے (1 دن) تک ڈریسنگ کو خشک رکھنا ضروری ہے۔ 24 گھنٹے بعد ڈریسنگ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے "ڈریسنگ تبدیل کرنا، نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیپس" سیکشن پڑھیں۔

آپ پروسیجر کے 2 دن بعد انسٹرشن سائٹ سے ڈریسنگ اتار سکتے ہیں۔ اور اب آپ نئی ڈریسنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر سٹیری سٹریپس ہیں تو انہیں چھوڑ دیں جب تک وہ خود نہ اتر جائیں۔ ایسا آپ کے پروسیجر کے تقریباً 3 سے 5 دن بعد ہونا چاہیے۔ CVC کو کور کرنے والی ڈریسنگ نہ اتاریں۔

آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جب آپ کے کٹس ٹھیک ہو تو اس دوران آپ کون سی ایکس ر سائز اور کام کر سکتے ہیں۔ بہاری ایکس ر سائز (جیسے دوڑنا، جاگنگ کرنا یا وزن اٹھانا) شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔

## CVC کی دیکھ بہال

- اپنے CVC کو پانی کے اندر (جیسے باتھ ٹب یا سوئمنگ پول میں) نہ رکھیں۔
- جب CVC استعمال میں نہ ہو تو لومنز کو کلیپ لگا کر رکھیں۔
- CVC کو محفوظ رکھیں اور کھچنے سے بچائیں۔ اپنی نرس سے CVC کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ معلوم کریں۔
- ایسے رابطوں، کھیلوں اور سرگرمیوں (جیسے فٹ بال، ساکر اور رف ہاؤسنگ) سے پرہیز کریں جو آپ کے CVC پر اثر انداز ہو سکتی ہوں۔ کوئی بھی سرگرمی شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے محتاط رہیں اور CVC کو کھچنے سے بچائیں۔
- ہر روز ایگزٹ سائٹ کو ان چیزوں کے لیے چیک کریں:
  - سرخی
  - نرمی
  - لیکج
  - سوجن
  - جریان خون

ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئے تو اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔ آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔

## CVC لیک ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے

1. لیک کے اوپر CVC کو کلیپ لگا دیں۔ اگر ہو سکے تو سفید کلیپ کو ٹیوب پر لٹائیں تاکہ یہ لیک کے اوپر ہو۔ اگر آپ سفید کلیپ استعمال نہیں کر سکتے تو اپنی ایمرجنسی کٹ سے ٹوتھ لیس کلیپ استعمال کریں۔
2. الکوحل پیڈ سے لیک ہونے والی جگہ صاف کریں۔
3. میڈیکل ٹیپ سے لیک ہونے والی جگہ کور کریں۔
4. فوراً اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔ عموماً CVC کو مرمت کیا جا سکتا ہے۔

## CVC کی ڈریسنگ خراب، ڈھیلی، گندی یا گیلی □ تو کیا کرنا چاہیے □

اپنی ڈریسنگ فوراً تبدیل کریں □ “ڈریسنگ تبدیل کرنا، نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیپس” سیکشن میں درج □ دایات پر عمل کریں □

## اگر نیڈل لیس کنیکٹر گندا □ و جائ □ یا گر جائ □ تو کیا کرنا چاہیے □

- اگر نیڈل لیس کنیکٹر گندا □ و جائ □ تو اس □ تبدیل کر دیں □ “نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیپس کو تبدیل کرنے □ کا طریق □” سیکشن میں فرا □ م کرد □ دایات پر عمل کریں
- اگر آپ کا نیڈل لیس کنیکٹر گر جائ □ تو اس □ کچر □ میں پھینک دیں □ اس □ دوبار □ لومن پر □ لگائیں □ درج ذیل □ دایات پر عمل کرت □ و □ نیا نیڈل لیس کنیکٹر لگائیں □
  1. اپنی چیزیں نکالیں □ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت □ و □ گی:

■ 2 الکوحل پیڈ

■ ایک نیا نیڈل لیس کنیکٹر

■ ایک نئی ڈس انفیکشن کیپ

2. اس بات کو یقینی بنائیں کہ □ لومن پر لگا □ و □ کلیمپ بند □ □

3. الکوحل پیڈ استعمال کرت □ و □ اپن □ نان ڈومینٹ □ اتھ (جو آپ لکھنے □ کہ □ لیں □ استعمال □ نہیں کرت □) س □ لومن کو اس طرح پکڑیں کہ □ و □ نیڈل لیس کنیکٹر □ قریب □ و □ لیکن اس □ چھو □ نہیں □

4. اپن □ ڈومینٹ □ اتھ س □ ایک اور الکوحل پیڈ اٹھائیں □ الکوحل پیڈ س □ لومن □ سر □ کو 15 سیکنڈ تک رگڑیں □ اس □ بعد الکوحل پیڈ پھینک دیں □ لومن کو 15 سیکنڈ تک خشک □ و □ دیں □

5. اپن □ ڈومینٹ □ اتھ س □ ایک اور نیڈل لیس کنیکٹر اٹھائیں □ اگر اس □ اوپر کور □ و □ تو اس □ اتار دیں □ ن □ نیڈل لیس کنیکٹر کو لومن پر لگائیں □

6. نیڈل لیس کنیکٹر □ سر □ پر ڈس انفیکشن کیپ لگائیں □

- نیا نیڈل لیس کنیکٹر لگان □ کہ □ بعد اپن □ ڈاکٹر کو کال کریں □ ی □ یقینی بنان □ کہ □ لیں □ کہ □ آپ کو کوئی انفیکشن □ نہیں □ آپ □ خون کا نمون □ لیا جا سکتا □ □ □

## اگر ڈس انفیکشن کیپ گر جائ □ تو کیا کرنا چاہیے □

جو ڈس انفیکشن کیپ گر جائ □ اس □ پھینک دیں □ اس □ دوبار □ لومن پر □ لگائیں □

نئی ڈس انفیکشن کیپ لگانے کے لیے:

1. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی یا الکوحل والے ہینڈ سینیٹائزر سے صاف کریں۔
2. اپنی ایمرجنسی کٹ سے نئی ڈس انفیکشن کیپ نکالیں۔ سٹریپ سے کیپ نکالیں۔
3. ایک ہاتھ سے نیڈل لیس کنیکٹر پکڑیں۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے نئی ڈس انفیکشن کیپ کو نیڈل لیس کنیکٹر کے سر پر آہستگی سے دبائیں اور موڑیں۔

## نہانہ کے لیے ہدایات

نہانہ کوئی اس سیکشن میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ اپنے CVC کو پانی کے اندر (جیسے ہاتھ تبا یا سوئمنگ پول میں) نہ رکھیں۔

CVC کے ساتھ نہانہ سے متعلق مزید معلومات کے لیے درج ذیل ویڈیو دیکھیں۔

Please visit [www.mskcc.org/ur/cancer-care/patient-education/video/showering-while-you-have-central-venous-catheter](http://www.mskcc.org/ur/cancer-care/patient-education/video/showering-while-you-have-central-venous-catheter) to watch this video



## واٹر پروف کور استعمال کریں

آپ کیتھیٹر کے ساتھ نہانہ سکتے ہیں؛ اس کے لیے سنگل یوز واٹر پروف کور (جیسے AquaGuard®) استعمال کریں جو ڈریسنگ کو مکمل طور پر ڈھانپ دے گا۔ آپ واٹر پروف کورز آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔

ہر بار نہانہ کوئی اپنے ڈریسنگ اور CVC کو نئے واٹر پروف کور سے مکمل طور پر ڈھانپیں تاکہ وہ گیلا ہونے سے محفوظ رہیں۔ واٹر پروف کور استعمال کرنے کے لئے:

1. اس کے اوپر اور سائیڈ پر لگی سٹریپس اتار دیں۔
2. اس کا اوپر والا کنارہ ڈریسنگ کے اوپر رکھیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ واٹر پروف کور پر موجود ٹیپ ڈریسنگ کو نہ چھوئے۔ کیونکہ یہ نہانہ کے بعد واٹر پروف کور اتارنے کوئی آپ کی ڈریسنگ بھی اتار سکتا ہے۔ کور کو اپنی ڈریسنگ کے اوپر پھیلائیں۔
3. اور نیچے والی سٹریپ اتار دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ واٹر پروف کور کا نیچے والا کنارہ آپ کی ڈریسنگ کے نیچے ہو اور آپ کے کیتھیٹر کے لومنز واٹر پروف کور کے اندر اور مکمل طور پر ڈھکے ہوئے ہوں۔ نیچے والے کنارے کو پھیلائیں۔

15 منٹ سے زیادہ نہ لٹائیں۔ نیم گرم پانی سے نہ لٹائیں اور گرم پانی استعمال نہ کریں۔ اس سے واٹر پروف کور اترنے سے محفوظ رہے گا۔

نہ لٹانے کے بعد واٹر پروف کور کو اتارنے سے پہلے اسے خشک کریں۔ اگر ڈریسنگ گیلی ہو جائے تو اسے تبدیل کر دیں۔ ”ڈریسنگ، نیڈل لیس کنیکٹر اور ڈس انفیکشن کیپس تبدیل کرنا“ سیکشن میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

## ایسا اینٹی سپٹک سکن کلینر سلوشن استعمال کریں جس میں 4% chlorhexidine gluconate (CHG) ہو جسے Hibiclens®

جب تک CVC لگا ہوا ہو آپ کے لیے انفیکشن کا خطرہ کم کرنے کے لیے اپنی جلد کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ CVC کے ساتھ نہ لٹانے دھونے کے لیے روزانہ 4% CHG والا سلوشن استعمال کریں۔

CHG ایک سخت جراثیم کش دوا ہے (جراثیم اور بیکٹیریا مارنے کے لیے استعمال ہونے والا لیکویڈ) جو استعمال کے بعد 24 گھنٹے تک جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ 4% CHG والا اینٹی سپٹک سکن کلینر سلوشن کے ساتھ نہ لٹانے سے CVC استعمال کرنے کے دوران انفیکشن کا خطرہ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

آپ نسخہ کے بغیر کسی مقامی فارمیسی سے یا آن لائن 4% CHG والا اینٹی سپٹک سکن کلینر سلوشن خرید سکتے ہیں۔ ڈسچارج ہوتے وقت آپ کو ہسپتال کی طرف سے بھی ایک چھوٹی بوتل فراہم کی جائے گی۔

### 4% CHG والا سلوشن استعمال کرنے کے لیے ہدایات

1. اپنے معمول کے شیمپو اور کنڈیشنر کے ساتھ اپنے بال دھوئیں۔ اپنے سر کو اچھی طرح دھوئیں۔
2. اپنے چہرے اور جنسی اعضاء (شرمگاہ) کی جگہ کو اپنے معمول کے صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد اپنے جسم کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
3. 4% CHG والا سلوشن کی بوتل کھولیں۔ تھوڑا سا اپنے ہاتھ یا صاف واش کلاتھ پر انڈیلیں۔
4. شاور اسٹریم سے دور ہٹ جائیں۔ 4% CHG سلوشن اپنے جسم پر گردن سے پاؤں تک آستے آستے رگڑیں۔ اسے اپنے چہرے یا جنسی اعضاء پر لگانے سے پرہیز کریں۔
5. 4% CHG سلوشن دھونے کے لیے شاور سٹریم کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ گرم پانی استعمال کریں۔
6. اپنا جسم صاف تولیے سے خشک کر لیں۔

نہ لٹانے کے بعد کوئی لوشن، کریم، ڈیوڈورنٹ، میک اپ، پاؤڈر، پرفیوم یا کولون نہ لگائیں۔

## 4% CHG سلوشن استعمال کرتے وقت یہ اہم نکات یاد رکھیں

- 2 ماہ سے کم عمر بچوں پر CHG استعمال نہ کریں
- اپنی نرس سے بات کیے بغیر 4% CHG سلوشن سے نہ لائے۔ بعد عام صابن، لوشن، کریم، پاؤڈر یا ڈیوڈورنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ ہسپتال میں ہیں تو آپ کی نرس آپ کو ایک لوشن دے گی جس سے آپ 4% CHG سلوشن استعمال کرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔
- 4% CHG سلوشن اپنے سر، چہرے، کانوں، آنکھوں، منہ، جنسی اعضاء یا گہرے زخموں پر استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی زخم ہے اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو اس پر 4% CHG سلوشن استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔
- اگر آپ کو کلورہیکسائیڈین chlorhexidine سے الرجی ہے تو 4% CHG سلوشن استعمال نہ کریں۔
- اگر 4% CHG سلوشن استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں جلن ہوتی ہے یا الرجک ری ایکشن ہوتا ہے تو اس کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔

## اپنی پٹی، نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیس تبدیل کرنا

آپ کے لیے ڈریسنگ، نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیس تبدیل کرنا اور ہفتے میں کم از کم ایک بار CVC کو فلش کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر، آپ کی اپوائنٹمنٹس کے دوران نرس آپ کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ یہ کام سیکھنا بہت اہم ہے تاکہ ڈریسنگ، نیڈل لیس کنیکٹر یا ڈس انفیکشن کیس کے خراب، ڈھیلا، گیلا، گندا ہونے یا گرنے کی صورت میں آپ یہ سب خود کر سکیں۔

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

- نہ لائے۔ بعد باتھ روم میں اپنی ڈریسنگ تبدیل نہ کریں۔ شاور کی بہاؤ کی وجہ سے یہ آپ کی جلد سے نہیں چپکے گی۔
- ایگزٹ سائٹ کو کور کرنے کے لیے Tegaderm™ ڈریسنگ استعمال کریں۔ ڈریسنگ کو ہفتے میں ایک بار تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ گیلی، خراب یا گندی ہو جائے تو اسے ہفتے سے پہلے ہی تبدیل کر دیں۔ اسی دن تبدیل کریں جس دن آپ اپنے نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیس تبدیل کرتے اور CVC فلش کرتے ہیں۔
- اگر آپ کی ٹیگاڈرم ڈریسنگ کا جیل پیڈ سوج جائے تو اپنی ڈریسنگ تبدیل کر دیں۔ آپ جیل پیڈ کو اپنی انگلی سے آہستہ سے دبا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اگر دبانے سے یہ دب جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جیل پیڈ سوج گیا ہے اور آپ کو ڈریسنگ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تب ہوتا ہے جب آپ کو ڈریسنگ کے نیچے بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہو۔

- اگر آپ کو جلد کے مسائل اور ہیں، جیسے جلنا یا حساسیت تو آپ کی نرس مختلف قسم کی ڈریسنگ تجویز کر سکتی ہے ایسی صورت میں، ڈریسنگ کو ہفتے میں ایک سے زیادہ بار تبدیل کرنا ضروری ہے
- اس سے قطع نظر کہ آپ کون سی ڈریسنگ استعمال کر رہے ہیں، اگر یہ اترنا شروع ہو جائے یا گیلی ہو جائے تو اسے فوراً تبدیل کر دیں اس پر ایک اور ڈریسنگ کرنے یا ٹیپ لگانے سے اجتناب کریں

## سامان

- 1 ڈریسنگ چینج کٹ
- نان سٹیرل دستاں
- میڈیکل (پیپر) ٹیپ
- رلومن کے لیے 1 ڈس انفیکشن کیپ
- ایک مختلف ڈریسنگ یا نیڈل لیس کنیکٹر، اگر آپ کی نرس نے دی ہے تو
- میز پر کھڑا ہونے والا آئینہ، جیسے میک اپ کے لیے استعمال ہونے والا آئینہ
- حسب ضرورت سٹکی نیس دور کرنے والا سپرے یا پیڈز

## ڈریسنگ تبدیل کرنے کے لیے سٹیرل پروسیجر

یاد رکھیں کہ نہ ہانہ کے بعد ہاتھ روم میں اپنی ڈریسنگ تبدیل نہ کریں

1. ایک صاف کام کی جگہ تیار کریں اپنی چیزیں نکالیں
2. بچوں کی ڈریسنگ تبدیل کرنے کے لیے ریسورس میپ کھولیں: *CVC* جو اس ریسورس کے پرنٹ ورژن میں شامل ہے اگر آپ *How to Put on Your Sterile Gloves* استعمال کر رہے ہوں تو اسے بھی کھولیں ان سب کو ایسی جگہ پھیلائیں جہاں آپ انہیں دیکھ سکیں ایک بار جب آپ پٹی تبدیل کرنا شروع کر دیں تو آپ پھر آپ انہیں چھونے میں سکتے ہیں کیونکہ اس سے سٹیرائل ٹیکنیک کام نہ لے کرے گی

آپ کی ڈریسنگ چینج کٹ میں پروسیجرل چیک لسٹ بھی موجود ہے ہوتی ہے چیک لسٹ بنیادی معلومات کا ایک مختصر خلاصہ ہے آپ اسے اس ریسورس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کی 2 سائڈز ہیں نرس جو سائڈز استعمال کرنے کی ہدایت کرے گی استعمال کریں

3. اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کریں


○ اگر آپ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوریں تو آپ اپنے ہاتھوں کو گرم پانی سے گھس کر اور اینٹی بیکٹیریل صابن لگائیں۔ اپنے ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھی طرح رگڑیں اور پھر دھولیں۔ اپنے ہاتھ پیر ٹاول سے خشک کریں اور اسی تولیہ سے نلکا بند کریں۔ اگر آپ کے پاس ڈسپوزیبل ٹاولز نہیں ہیں تو آپ کپڑے کے صاف تولیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب وہ گیلے ہو جائیں تو انہیں تبدیل کر دیں۔

○ اگر آپ اینڈ سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اس سے اچھی طرح کور کریں اور انہیں خشک ہونے تک آپس میں رگڑیں۔

4. آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اگر ضرورت ہو تو CVC کو اپنے کپڑوں سے الگ کر دیں۔ کپڑے کھولیں یا اتار دیں تاکہ CVC نظر آسکے۔

5. اس بات کو یقینی بنائیں کہ CVC کلیمپ بند ہے۔

6. ڈریسنگ چینج کٹ کی بیرونی پیکنگ اتاریں۔ بالکل اوپر دو سرجیکل ماسک ہوں گے (شکل 2 دیکھیں)۔ آپ اور وہ شخص جو ڈریسنگ تبدیل کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے دونوں کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے۔ کٹ کے اندر کسی اور چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔



شکل 2 ڈریسنگ چینج کٹ

7. نان سٹیرل دستاں پہنیں۔ اپنی پرانی ڈریسنگ اتار دیں، اس کے لیے ڈریسنگ کے ایک کنارے کو پکڑیں اور اسے آگے سے اتارنے کے لیے اوٹو ایگزٹ سائٹ کی طرف لائیں۔

○ CVC کو اپنی جگہ پر رکھیں اور کھچاؤ سے بچانے کے لیے ڈریسنگ اتارنے کے دوران اپنا انگوٹھا یا شہادت کی انگلی جیل پیڈ پر رکھیں۔

○ ڈریسنگ اتارنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے آپ جیل پیڈ کے نیچے والے حصے کو سٹکی نیس دور کرنے والے پیڈ یا سپر سے صاف کر سکتے ہیں۔

○ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پورا جیل پیڈ ڈریسنگ کے ساتھ اتر جائے۔



دستانہ اور پرانی ڈریسنگ پھینک دیں

8. چھوئے بغیر ایگزٹ سائٹ اور اس کے ارد گرد جلد کا معائنہ کریں اگر آپ اپنی ڈریسنگ خود تبدیل کر رہے ہیں تو آئینہ کے ذریعے اپنا معائنہ کر سکتے ہیں اگر ایگزٹ سائٹ سرخ، کچی یا سوجی ہوئی ہو یا رس رہی ہو یا آپ کے CVC کے ارد گرد کا حصہ لیک ہو رہا ہو تو ڈریسنگ تبدیل کرنے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو کال کریں
9. باقی سامان دیکھنے کے لیے پیپر کی سفید سٹیئرل تہ کے کھولیں اگر آپ کی نرس نے آپ کو استعمال کے لیے مختلف ڈریسنگ یا نیڈل لیس کنیکٹر دیا ہو تو اس کا پیکیج اس طرح کھولیں کہ ڈریسنگ یا نیڈل لیس کنیکٹر سٹیئرل پیپر ڈریپ پر رہی ہو

**اس کے بعد سے الکحل پیڈ کے بغیر اپنے CVC یا جلد کو ہاتھ نہ لگائیں** یہ آپ کے انفیکشن کا خطرہ کم کرے گا


10. اپنے ہاتھ گرم پانی اور اینٹی بیکٹیریل صابن سے اچھی طرح دھوئیں یا ڈریسنگ چینج کٹ کی باہر والی سائیڈ سے ہینڈ سینیٹائزر پیکٹ استعمال کریں
11. سٹیئرل دستانہ پہن کر پیکیج اٹھائیں احتیاط کریں کہ آپ سٹیئرل پیپر ڈریپ پر موجود کسی اور چیز کو ہاتھ نہ لگائیں

*How to Put on Your Sterile Gloves* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sterile-gloves)

[education/sterile-gloves](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sterile-gloves)) میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ننگے ہاتھ سے


سٹیئرل دستانہ کی صرف اندرونی سائیڈ کو چھوتے ہوئے سٹیئرل دستانہ پہنیں دستانہ پہننے کے بعد محتاط رہیں اور سٹیئرل پیپر کی تہ پر موجود اشیاء کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں

12. سٹیئرل پیپر کی دوسری تہ نکال کر کھولیں اور اسے اپنے کام کی جگہ پر پھیلائیں سٹیئرل پیپر کی پہلی تہ سے ہر چیز سٹیئرل پیپر کی دوسری تہ پر منتقل کریں
13. تمام الکوحل پیڈز کھولیں اور ان کی ریپنگ اتاریں الکوحل پیڈز کو دوبارہ سٹیئرل پیپر کی دوسری تہ پر رکھ دیں ریبرز پھینک دیں
14. اپنے ڈومینٹ ہاتھ سے ChlorPrep<sup>™</sup> ایپلی کیٹر اٹھائیں سائیڈ پر پروں کو زور سے اکٹھا دبائیں جب تک کلک کی آواز نہ آئے (شکل 3 دیکھیں)



تصویر 3 کلورا پریپ ایپلی کیٹر

15. اپنی نان ڈومینٹ ہاتھ سے الکوحل پیڈ اٹھائیں اور اسے اپنے CVC کو سینے سے دور رکھنے کے لیے استعمال کریں (تصویر 4 دیکھیں) CVC کو برا راست ہاتھ نہ لگائیں صرف الکوحل پیڈ کو ہاتھ لگائیں۔




تصویر 4 کیتھیٹر پکڑنا

16. ایگزٹ سائٹ سے شروع کرتے ہوئے، ایگزٹ سائٹ کے ارد گرد 2 انچ کے باکس کو کلورا پریپ سے اوپر نیچے اور دائیں بائیں رگڑیں (شکل 5 دیکھیں) 30 سیکنڈ تک رگڑیں اور کلورا پریپ کو پھینک




تصویر 5 ایگزٹ سائٹ کی صفائی

17. اب اس جگہ کو کم از کم 30 سیکنڈ تک خشک ہونے دیں اس پر پنکھا جھلنے یا پھونک مارنے سے اجتناب کریں CVC کو اپنے سینے سے دور پکڑ رکھیں
18. اپنے ڈومینٹ ہاتھ سے ایک اور الکوحل پیڈ اٹھائیں اسے جہاں مرکزی کیتھیٹر لومنز میں تقسیم ہوتا ہے اس کے بالکل اوپر اپنا CVC پکڑنے کے لیے استعمال کریں CVC کو اوپر اور اپنے سینے سے دور رکھیں
19. اپنے نان ڈومینٹ ہاتھ والا الکوحل پیڈ پھینک دیں اور نیا پیڈ اٹھائیں الکحل پیڈ استعمال کرتے ہوئے، ایگزٹ سائٹ سے لومنز کے آخر تک جلد کو آستے آستے صاف کریں (شکل 6 دیکھیں) اپنے CVC کو کھینچنے سے اجتناب کریں




تصویر 6 لومنز کی صفائی

20. اپنی لومنز کے لیے سٹیپ 19 دہرائیں۔
21. تمام لومنز صاف کرنے کے بعد آپ کو CVC جسم سے دور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
22. اپنی جلد پر ڈریسنگ کے سائز کے برابر مستطیل شکل میں نو اسٹنگ بیرئرفلم لگائیں۔ اس کے اوپر میں پوری طرح خشک ہونے دیں۔ اس پر پنکھا جھلنے یا پھونک مارنے سے اجتناب کریں۔
23. ڈریسنگ کے پچھلے حصے کو اتاریں (شکل 7 دیکھیں)۔ ڈریسنگ کو مثلث شکل میں اپنے CVC کے اوپر رکھیں۔ ایگزٹ سائٹ کو مرکزی پوائنٹ بناتے ہوئے جیل پیڈ کو اس کے اوپر رکھیں اور ڈریسنگ کے کناروں کو سیدھا کریں۔ ڈریسنگ کرتے ہوئے اسے کھینچنے سے اجتناب کریں۔



تصویر 7 ٹیگاڈرم (CHG) Tegaderm ڈریسنگ

24. باہر لگے پلاسٹک کے گول ٹیب کو پکڑیں اور ڈریسنگ کے چاروں طرف سے پلاسٹک اتار دیں (تصویر 8 دیکھیں)۔ چیک کرنے کے لیے کہ یہ آپ کی جلد سے پوری طرح چپک گئی ہے ڈریسنگ کو باہر سے دبائیں۔



تصویر 8 ٹیگاڈرم CHG ڈریسنگ کرنا

اب آپ کا ڈریسنگ کی تبدیلی کا سٹیبل والا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیپس تبدیل کرنے کے لیے اپنا دستاں اور ماسک پہن رکھیں۔


## نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیپس کی تبدیلی

نئی ڈریسنگ کرنے کے بعد اپنے CVC کے لومن کے نیڈل لیس کنیکٹر اور ڈس انفیکشن کیپ کو تبدیل کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس لومن کے لیے 3 الکوحل پیڈز ہوں۔

اگر آپ اپنی ڈریسنگ اس وجہ سے تبدیل کر رہے ہیں کہ وہ خراب، ڈھیلی، گیلی یا گندی ہے تو آپ کو اپنے نیڈل لیس کنیکٹرز اور ڈس انفیکشن کیپس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ بھی گندے نہ ہوں۔

1. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے لومنز کے کلیمپ بند ہیں۔

2. الکوحل پیڈ استعمال کرتے ہوئے اپنے نان ڈومینینٹ ہاتھ سے لومن کو اس طرح پکڑیں کہ وہ نیڈل لیس کنیکٹر کے قریب تو ہو لیکن اسے چھوئے نہیں (شکل 9 دیکھیں)۔




تصویر 9 کینٹیئر پکڑنا

3. اپنے ڈومینینٹ ہاتھ سے دوسرے الکوحل پیڈ سے 15 سیکنڈ تک کنکشن سائٹ کو صاف کریں۔ اسے 15 سیکنڈ تک خشک ہونے دیں۔

4. پرانے نیڈل لیس کنیکٹر کو گھما کر اتار دیں۔ پرانے نیڈل لیس کنیکٹر اور الکوحل پیڈ کو پھینک دیں۔


5. اپنے ڈومینینٹ ہاتھ سے نئے الکحل پیڈ سے 15 سیکنڈ تک لومن کے سرے کو صاف کریں۔ اسے 15 سیکنڈ تک خشک ہونے دیں۔

6. اپنے ڈومینینٹ ہاتھ سے ایک نیا نیڈل لیس کنیکٹر اٹھائیں۔ اگر اس کے اوپر کور ہو تو اسے اتار دیں۔ نئے نیڈل لیس کنیکٹر کو گھما کر لومن پر لگائیں (شکل 10 دیکھیں)۔



تصویر 10 نئی نیڈل لیس کنیکٹر کو لگانا

7. اگر آپ نے اپنا CVC فلش نہیں کرنا **فورا**، تو نیڈل لیس کنیکٹر کے سر پر ڈس انفیکشن کیپ لگائیں
  8. اپنے دوسرے لومنز کے لیے سٹیپ 2 سے 7 کو دہرائیں
  9. اپنا ماسک اور دستاں اتاریں اور انہیں پھینک دیں
  10. اپنے CVC کو کھینچنے سے بچائیں آپ کی نرس آپ کو بتائے گی کہ CVC کو محفوظ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے آپ یہ اقدامات کر سکتے ہیں:
- اسے اپنی براکے اندر دبا دیں (اگر آپ پہنتی ہیں تو)
  - اسے اپنے کپڑوں پر پن کر لیں اس کے لیے:
1. پیپر ٹیپ کا 3 انچ کا ٹکڑا کاٹ لیں
  2. ٹیپ کے کناروں کو فولڈ کر لیں (شکل 11 دیکھیں) اتنی سٹکی ٹیپ چھوڑ دیں کہ آپ اسے اپنے تمام لومنز کے گرد لپیٹ سکیں
  3. پیپر ٹیپ کے سٹکی حصے والے لومنز اکھٹے کریں سیفٹی پن فولڈ کیے ہوئے کناروں سے گزار کر اپنے کپڑوں کے اندر پن کر لیں



تصویر 11 پیپر ٹیپ

اپنا CVC کو صرف اس صورت میں ڈھیلا چھوڑیں جب آپ کو یقین ہو کہ اسے کھینچنے کا خطرہ نہیں ہے۔

## CVC فلش کرنے کا طریقہ

آپ کی کیئر ٹیم کا رکن آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اپنا CVC فلش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے CVC فلش کرنا ہے تو درج ذیل مراحل پر عمل کریں۔

### سامان

- 10 ملی لیٹر والی عام سیلین سلوشن سے بھری ہوئی سرنج / سرنجیں آپ کو رلومن کے لیے 1 سرنج کی ضرورت ہوگی۔
- نان سٹیرل دستاں
- رلومن کے لیے 2 الکوحل پیڈز
- رلومن کے لیے 1 ڈس انفیکشن کیپ

## اپنا CVC فلش کرنے کے مراحل

1. اپنی چیزیں نکالیں۔
  2. اپنا ہاتھ اچھی طرح صاف کریں۔
- اگر آپ اپنا ہاتھ صابن اور پانی سے دھوریں تو اپنا ہاتھوں کو گرم پانی سے گیلا کریں اور اینٹی بیکٹیریل صابن لگائیں۔ اپنا ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھی طرح رگڑیں اور پھر دھولیں۔ ہاتھ پیپر ٹاول سے خشک کریں اور اسی تولیہ سے نلکا بند کریں۔ اگر آپ کے پاس پیپر ٹاولز نہیں ہیں تو آپ کیپ کے صاف تولیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب وہ گیلا ہو



جائیں تو انہیں تبدیل کر دیں۔

○ اگر آپ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اس سے اچھی طرح کور کریں اور انہیں خشک ہونے تک آپس میں رگڑیں۔

3. نان سٹیرل دستاں پہنیں۔

4. سرنج سے ہوا کو بلبا نکالیں اس کے لیے:

1. سرنج کو ایسے پکڑیں کہ اس کی نوک اوپر کی طرف ہو۔

2. اسے سائیڈ سے آستگی سے تھپتھپائیں ہوا کو بلبا محلول کی سطح پر آ جائیں گے۔

3. سرنج کی کیپ کو کھولیں بغیر ہلکا سا ڈھیلا کریں۔

4. سرنج کے پلنجر کو دبائیں جب تک کہ ساری ہوا باہر نہ نکل جائے۔

5. کیپ دوبارہ بند کر دیں۔

5. اپنے نان ڈومینٹ ہاتھ سے ایک لومن اٹھائیں اگر ڈس انفیکشن کیپ لگی ہوئی ہے تو اسے اتار دیں اپنے ڈومینٹ ہاتھ سے نیڈل لیس کنیکٹر کے سرے کو الکحل پیڈ سے 15 سیکنڈ تک صاف کریں اسے 15 سیکنڈ تک خشک ہونے دیں۔

6. سرنج سے کیپ اتاریں کیپ پھینک دیں لومن کو اپنے جسم سے دور رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس دوران کوئی بھی چیز نیڈل لیس کنیکٹر کے صاف سرے کو نہ چھوئے۔

7. سرنج کو احتیاط سے نیڈل لیس کنیکٹر میں دھکیلیں اور گھڑی کی سمت (دائیں طرف) گھمائیں جب تک کہ کنکشن محفوظ نہ ہو جائے۔

8. لومن سے کلیپ اتاریں سیلین انجیکشن لگانے سے پہلے یقینی بنائیں کہ ٹیوب میں کوئی موڑ یا رکاوٹیں نہ ہوں۔

9. اپنا CVC فلش کرنے کے لیے دبائیں/رکیں کا طریقہ استعمال کریں۔

1. جلدی سے سیلین کا 1/3 انجیکشن لگائیں توقف کریں۔

2. سیلین کا ایک اور 1/3 انجیکشن لگائیں توقف کریں۔

3. سیلین کا آخری 1/3 انجیکشن لگائیں۔

اگر سیلین انجیکٹ نہ ہو رہا ہو تو، رکیں اور چیک کریں کہ لومن کا کلیپ اترا ہوا ہے اور ٹیوب میں کوئی موڑ یا رکاوٹ تو نہ ہے۔ دوبارہ سیلائن لگانے کی کوشش کریں۔

اگر آپ پھر بھی سیلائن نہ لگا سکیں تو لائن کو فلش کرنے کے لیے اضافی دباؤ استعمال نہ کریں۔ مراحل 10 سے 12 پر عمل کریں اور پھر اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔

10. لومن پر دوبارہ کلیپ لگائیں

11. سرنج کو لومن سے منقطع کرنے کے لیے اسے گھڑی کی مخالف سمت (بائیں طرف) گھمائیں اور اسے پھینک دیں

12. نیڈل لیس کنیکٹر کے سر پر نئی ڈس انفیکشن کیپ لگائیں

لومن کے لیے مراحل 4 سے 12 کو دہرائیں۔ کام ختم ہو جائے تو اپنا ماسک اور دستاں پھینک دیں۔ اپنا ہاتھ گرم پانی اور اینٹی بیکٹیریل صابن سے اچھی طرح دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔

## اپنے معالج کو کب کال کی جائے

اپنے ڈاکٹر کو فوراً کال کریں اگر:

- آپ کی ایگزٹ سائٹ کے ارد گرد سرخی یا سوجن ہو یا وہ رسی ہو
- آپ کو  $100.4^{\circ}\text{C}$  ( $38^{\circ}\text{F}$ ) یا زیادہ بخار ہو
- آپ کا کیتھیٹر ٹوٹ جائے یا رسی ہو
- آپ کا نیڈل لیس کنیکٹر گر گیا ہو
- آپ کے کیتھیٹر میں خون جمع ہو رہا ہو
- آپ کا کیتھیٹر آپ کے پمپ سے منقطع ہو جائے
- آپ کا کیتھیٹر پمپ سے جڑا ہوا ہو اور پمپ کا الارم بجنا شروع ہو جائے
- آپ کے کیتھیٹر میں کوئی غیر واضح مسئلہ ہو

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

مزید وسائل کے لیے، [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) پر جا کر ہماری ورچوئل لائبریری تلاش کریں

About Your Central Venous Catheter (CVC) for Pediatric Patients - Last updated on July 1, 2024

تمام حقوق Memorial Sloan Kettering Cancer Center کے زیر ملکیت اور محفوظ ہیں



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center